

انجیل زاگان ۛ پۛ  
ماس پس

اولی ایسٹر



نوشتہ کار: Edward Hughes

السرکار: Janie Forest  
Alastair Paterson

اپنائنگکار: Lyn Doerksen

مترجم کار: [www.christian-translation.com](http://www.christian-translation.com)

پیداوار کار: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2020 Bible for Children, Inc.

لائسنس: ترا حق استیں کہ تہو این قصہ ء کاپی او پرنٹ کڑت کنے،  
تا وخت ء کہ تہو اشی ء سودا نہ کنے۔



زال سرء اير پاد بو كنوك شوركنگ ء

كوه ء نزيك ء, آئي, ايشي

گم, مونجا گندگ دنكرء

چماں يك خوفناك زيد

آئي, ايشي نٲت مرگ

بچك مات, ماس مريم


نٲن, پاد يات نزينك

جاه ر آكجا يسوع

نٲت تاں يك

گگوز نٲگاؤ-





اے کل چون بو؟ چون یسوع  
یک زیبائیں زندگی ء انچو  
ہطرناک ختم کڑت کنت؟ خدا  
وتی زاگ ء دار  
ء سر ء میخ  
کنگ ء اجازت  
دات کڑت کنت۔

چہ یسوع ہر چیز ء پہ ات  
آگلط بو؟ چہ خدا ناکام بو۔





نه! خدا ناکام نه بو- يسوع بچ  
گلطي نه کړتت- يسوع هر  
وخت زانتت که آلالچی ء  
مړدmani دستاں مرگ بی-  
وخته که يسوع یک زاگ ء  
ات، یک پیر ء مړدم سائمن  
نامی مریم ء گشتت که  
فریشانی دیما انت-



يسوع ۽ ڪشڪ ۽ چه  
چند روچ پيش، يڪ زال  
۽ وش بو آئي ۽ پادانا تها  
ريت۔ "آ زر ۽ زائع ڪنگ  
انت،" شاگردان شڪايت  
ڪرت انت۔ "آ جوانين ڪار ۽  
ڪرتا،" يسوع گشت۔آ "آ اشي ۽ مني  
ڪين دين ۽ په ڪرتا" چه عجب ۽ لوز!



ايشى بچ پس۔ يسوع ء  
دوانزده شاگرد انچه يك  
شاگرد يهوداس چاندى ء  
30 ٹوٹہ ء بيوض يسوع ء  
سردار ء په دھوكه دات۔




يهوده فسع ء تقريب ء، يسوع وتى  
آخري ء نغن ء وتى شاگردان ء گونا  
وارت. آ آئيانا خدا ء باروا گچينين  
چيزاں او وعده ہاں کہ آيانہ واستہ  
ء آ آئى ء گونا محبر کڑت گوشت. پدا  
يسوع آئياناں یک نان او پيالہ تقسيم ء  
پہ دات. آ آئيانى ياد گرى ء کہ

يسوع ء جسم او  
ہون گناہانى معافى  
ء پہ ديگ بوتنت.





پدا يسوع وتى سنگرانان گوشت كه آ دھوكه ديگ بيت۔ او آ  
تچہ، "من نہ تچى" پيٹر ضد كرت۔ "بانگوں ء بانگ ہچ  
پيش، تہوں منى انكار ء سہ وار كنى،" يسوع گوشت۔





بادا ٻهو شيءَ، يسوع  
گيتسمان ۽ باگ ۽ دعا ۽  
په شت۔ شاگردان ڪه آئي  
۽ گونها تيان واپ شتنت۔  
"ٻو مني پس،" يسوع  
دعا ڪرت، "۔۔۔ اے پيالہ  
۽ من ٻچ گزگ ۽ بل۔  
ٻهر حال، مني مرضي ۽  
نہ۔ تهي مرضي ۽۔"



اچانک یک رش باگ ء  
تہا داخل بوت۔ آئیانی  
سردار یہوداس بوت۔  
یسوع مزاحمت نہ کو،  
بلہ پیٹر یک مڑدم ء  
گوش ء برت۔ خاموشی ء  
مڑدم ء گوش ء دست زت  
او موشکت۔ یسوع زانت  
کہ آئی ء گرپاری خدا  
ئی پررضی انت۔



رئس يسوع ء اعلى ء پجارى ء لوگا بڑت۔ آده، يهودى  
سربراهان گوشت كه يسوع مرگ بى۔ نزىك، پيتر پاد يات  
غلام ء كر آج ء او ديست۔

سه وار مرڈمان پيتر ء  
اشاره كرنتت او گوشتت كه  
"تهو يسوع ء گونا بوتنت

انت!" سه وار پيتر  
انكار كرنت۔ بنچو كه

يسوع گوشتت۔ پيتر


حالانكه قسم

واڑت او ملعون

بوت۔




کوک۔ ا۔ ڈوڈل۔ ڈو




ہمو وختاں، یک مرگ ء  
بانگ دات۔ اے انچو پیڑ ء  
پہ خدا ء توار بوت۔ یسوع  
ء لوزاناں یاد کنگ ء پہ،  
پیڑ زار زار گریت۔





يوداس بي پشوان ات، آ زانت  
که يسوع مجرم و قصوروار  
ء نيت، يهوداس چاندي ء 30  
ٹوٹہ انا پس دات، بلہ پجاری  
آيانا پس نہ گت۔





یهوداس پیسه انا جالا  
چغل دات، او دُنا شت او  
وتارا دارا پهانسی دات۔






پجاری یسوع ء پائلٹ ء دیما یارٹ،  
روم ء گورنر، پائلٹ گشت، "من اے  
مردم آہج قصور ء نہ دیستن،" بلہ  
رش گریوگ شروع کڑت،  
"ایشا دار ء لٹکائین،  
ایشا دار ء لٹکائین!"





آخر پائلٹ دات، او يسوع ء يك صليب  
ء مرگ ء سزا دات۔ سپاہی يسوع ء فينٹ  
جتان، چہرہ ء تف کڑتنت، او گرتنت ء،  
آئيا خار ء تاج ٹہائنتنت او آئی ء سر ء  
مان کڑتنت ایش۔ پدا آ یک دارئیں صليب  
ء آئی ء مرگ ء پہ ميخ جتنت۔



يسوع هر وخت زانت كه آهمي ٿولا مري. آهمي بي زانت  
كه آئي مرگ معافي گماهاني كاري آ آياني يقين يارٿ. دو  
مجرم يسوع ء نزيك دار ء  
لٽكائينتگ بوتان. يك يسوع  
ء يقين كرتت. او جنت ء  
شت. او دومي نه كرتت.



گھنٹھانی دڙد بچ پس، يسوع  
گوشت،: "اے ختم بوت،" او  
مڙت، آئی ء کار مکمل ات۔  
سنگتاں آئی اره یک  
جتا ء مزار ء تها  
دفن کڙتنت۔



رومانی سپاہی مزار  
ء سیل آ سیل کڑتنت  
او پیرہ دانتت۔ نو کس  
تہا شتنت۔ یا ڈنا  
کائینت کڑتنت۔



اگہ اے قصہ ء آخر انت،  
اے چقدر پریشاب کن بی۔  
بلہ خدا یک گچینیں چیز  
ء کڑت۔ یسوع مرگ  
نہ اشتات۔



ہفتہ اولی ریح ء صوبان،  
یسوع ء یک شاگرد دیست  
کہ قبر ہچے سنگ ریڑ  
کڑتاں۔ وختہ کہ آتھا  
دیسٹ، یسوع  
دیگہ آدہ نیت۔



یک زال اشتاتگ ات، مزار ء  
گریوگ ات۔ یسوع آئی ء نمودار  
بوتت! آوشی ء تہا تچت کہ دگہ  
شاگردانہ گوشی، "یسوع زندگ  
انت! یسوع مرگ بچے پس  
یاتگ ات!"



زوت يسوع شاگردان ء يات، او آياناں وتى  
ميخ جنوك- ہوفناكين دستانا نشان دات، اے  
راست ات۔ يسوع پس زندہ ات! آ پيٹر ء وتى  
انكار ہچ معاف كرت، او وتى شاگردان ء  
گوشت كہ آئى ء باروا ہر يك ء گوشين، پدا آ  
جنت ء شت ہر جاہ ء كہ يانت۔





اولی ایسٹر

یک قصہ ء خدا ء لوزان، انجیل

تہا دیدگ بوتہا

میٹتوں 26-28، لئیوک 22-24،

جاہن 13-21

"تہی لوزانی دلچسپی روشنائی دات۔"

پ س ا ل م 119:130





انجیل مارا مہے خدا وند ء بارہ ء گوشى۔  
آ کہ مارا بنائینت او ہمے لوٹی کہ ما آئی ارہ درست بکناتیں۔

خدا وند زانى کہ ما غلطیں چیز کڑتا، آئارہ خدا وند گنا گوشى؛ گنا ء سزا  
موت انت، لیکن خدا وند ترہ بہار دوست کنت او آوتی پاک ء زاگ چیزس ء  
دیم دات کہ تہی واسطہ بمری او سزا بزوری، چیزس زندہ بوت یات او پس  
جنت ء شو! اگہ تہو چیزس ء باور کنے او آئی ہچے وتی گناپانی معافی لوٹے،  
آ کنت، آ نو کائی او تہی گونا بہی، او تہو آئی ء گونا ہمیشہ ہمیشہ ء بہے۔

اگہ ترا یقین کیت کہ اے راست انت، تو خدا آ گش:  
جوانین عیسی، منہ یقین انت کہ تو خدائے، او منی گناہانہ پہ مرگہ  
پہ یک مردم بھوتیں، او تون پس زندہ۔ مہربانی کن منی زندگی آتہا بیا  
و منی گناہانہ مراگ کن، تاکہ من نوکیں زندگی ء گندی، او یک یک روچہ  
ہمیشہ پہ تئی گونہ بی۔ تئی اطاعت پہ او وتی زاگے ڈول آتئی واستہ  
پہ زندگ بئیگہ پہ منی کمک آکن۔ آمین۔

بائبل آ وان و گون ہدا ہر روچ گپ کن۔ جان 3:16

